


تاریخ کے درپیکول سے

حضرت مولانا فتح محمد ریس غوثانی حنفی

مفتی عظیم پاکستان

اذ ازه المعرفہ کراچی



تاریخ کے درپھول سے

حضرت مولانا نفیتی محمد فتحی شعماںی حنفی
منسی عالم پاکستان



ادارہ المعارف گلچی

جمل حقوقی ملکیتِ حق اذانۃ المعرفت ہر جوی محفوظ ہیں

باہتمام : بھائی شستاق نبیقی

طبع جدید : ربیع الاول ۱۴۳۱ھ - فروری ۲۰۱۰ء

طبع : شش پرینگ پرنس کربلائی

ناشر : اذانۃ المعرفت ہر جوی

ملنے کے پڑتے:

اذانۃ المعرفت ہر جوی

فون: 021-35123161, 021-35032020

موبائل: 0300 - 2831960

ایمیل: imaarif@live.com

﴿مکتبہ معارف القرآن کربلائی﴾ دارالاشاعت، اردو بازار کربلائی

﴿ادارہ اسلامیات، انارکلی، لاہور﴾

فہرست مضمایں

| | |
|----|--|
| ۵ | عرض ناشر..... |
| ۷ | احس ا فرض..... |
| ۷ | غور کا علاج..... |
| ۸ | عجیب تعبیر..... |
| ۹ | آگ ہی آگ..... |
| ۱۰ | دریاؤں پر حکومت..... |
| ۱۲ | باپ اور بیٹا..... |
| ۱۳ | کاغذ کا مکڑا..... |
| ۱۳ | امام اعظم ابو حنیفہ [ؓ] |
| ۱۴ | تیارخ..... |
| ۱۵ | اساتذہ کا احترام..... |
| ۱۶ | والدہ کی اطاعت..... |
| ۱۷ | حاضر جوابی..... |
| ۱۸ | ایک اور واقعہ..... |
| ۱۹ | ذہانت..... |

| | |
|----|-------------------|
| ۱۹ | ایک اور واقعہ |
| ۲۰ | پر اسرار گواہی |
| ۲۰ | بنا کر دندخوش رکے |
| ۲۲ | حق بحق دار رسید |
| ۲۶ | تاریخی رات |
| ۲۶ | خط کا جواب |
| ۲۷ | پانی کا ایک گھونٹ |
| ۲۸ | حاضر جوابی |
| ۲۹ | آدم خور |
| ۳۰ | پھر دل کی بستی |



عرض ناشر

بسم اللہ الرحمن الرحیم

حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم مفتی اعظم پاکستان
ورئیس الجامعہ دارالعلوم کراچی کے تحریر کردہ زیر نظر تاریخی واقعات ۱۹۶۱ء میں
ماہنامہ "فکر نو" کے مختلف شماروں میں شائع ہوئے تھے۔

"ادارة المعارف کراچی" کوان واقعات میں سے بعض واقعات دستیاب
ہوئے جو افادہ عام کی غرض سے سمجھا کر کے کتابچے کی شکل میں شائع کر کے پیش کرنے
کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور
قارئین کے لئے ان واقعات کو حقیقی معنی میں مفید بنائے، آمين۔

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
بِحَمْدِهِ وَسُلْطَانِهِ وَبِسْمِ سُلْطَانِهِ

إِذَا رَأَيْتَ الْمُعْتَدِلَيْنَ كُلَّمَا يَجِدُونَ

محرم ۱۴۲۳ھ

جنوری ۱۴۰۲ء

تاریخ کے درپھول سے

احاسی فرض

امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ جن کے جاہ و جلال سے دنیا کی عظیم ترین طاقتیں لرزہ بر اندازم تھیں۔ تقریباً نصف دنیا پر جن کے اقتدار کا جھنڈا لہراتا تھا، ان سے ملنے کے واسطے ایک دفعہ اخفف، عرب کے چند مشہور زعماء کے ساتھ گئے، دیکھا تو دنیا کے عظیم فاتح، دامن چڑھائے ادھر ادھر دوڑتے پھر رہے ہیں، اخفف کو دیکھ کر کہا ”آدم تم بھی میرا ساتھ دو، سرکاری خزانہ کا ایک اونٹ بھاگ گیا ہے، اسے پکڑنا ہے، تم جانتے ہو ایک اونٹ میں کتنے غریبوں کا حق شامل ہے؟“

مہماںوں میں سے ایک نے کہا ”امیر المؤمنین! آپ کیوں تکلیف فرماتے ہیں، کسی غلام کو حکم دیجئے وہ ڈھونڈ لائے گا۔“ فرمایا: ”مجھ سے بڑھ کر کون غلام ہو سکتا ہے۔“

غور کا علان

امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہی واقعہ ہے کہ ایک دفعہ تقریر میں کہا کہ ”ساتھیوں ایک زمانہ میں میں اس قدر مفلس تھا کہ لوگوں کو پانی بھر کر لادیا کرتا تھا، وہ اس کے بدالے میں مجھے چھوہارے دیا کرتے تھے وہی کھا کر گذار کرتا تھا۔“ یہ کہہ کر منبر سے اتر آئے، سامعین کو تجھ ہوا کہ یہ منبر پر کہنے

کی کیا بات تھی؟ فرمایا کہ میرے دل میں ذرا غرور آگیا تھا یا اس کا علاج تھا۔

عجیب تعبیر

امام ابن سیرین ایک زبردست محدث و عالم ہونے کے ساتھ ساتھ تعبیر خواب میں بھی حیرتناک مہارت رکھتے تھے، ایک مرتبہ ایک شخص نے آکر اپنا خواب بیان کیا کہ ”میں نے دیکھا کہ میری چارپائی کے نیچے آگ کے انگارے دکب رہے ہیں۔“ فرمایا ”جا کر چارپائی کے نیچے کی زمین کو کھود خزانہ ملے گا،“ یہ شخص گھر گیا اور زمین کو کھودا تو یہ دیکھ کر حیرت و سرت کی انتہا نہ رہی کہ واقعی یہ جگہ خزانہ سے بھری پڑی تھی۔

اتفاق کی بات کہ چند ماہ بعد پھر اس نے یہی خواب دیکھا کہ انگارے دکب رہے ہیں۔ اور جا کر (شاید اس خیال سے کہ اس مرتبہ پھر خزانہ ملے گا) امام ابن سیرین کو خواب نیایا، اس مرتبہ آپ نے فرمایا کہ جلدی گھر پہنچ کر اپنے گھروالوں اور ضروری سامان کو باہر نکالو گھر پر کوئی آفت آنے والی ہے، یہ اقنان و خیز اس پہنچا اور گھروالوں اور ضروری سامان کو جلدی جلدی باہر نکالا، ابھی یہ فارغ ہی ہوا تھا کہ وہ گھر اچانک گر کر منٹی کاڑھیر بن گیا۔

اب لوگ حیرت زدہ تھے اور خود یہ بھی کہ یہ عجیب ماجرا ہے کہ پہلے امام نے بعینہ اسی خواب کی تعبیر وہ دی جس پر دوسرے لوگ بھی رشک کرتے ہیں اور اب پھر جب یہی خواب دیکھا تو یہ ہولناک تعبیر بتائی اور دونوں حیرتناک حد تک صحیح ثابت ہوئیں، نہ رہا گیا تو ابن سیرین سے پوچھا، فرمایا: ”کہ بھائی

پہلی مرتبہ تم نے خواب سردی کے موسم میں دیکھا تھا، اور سردی میں آگ اللہ کی عظیم نعمت ہے، لہذا میں نے تعبیر دی کہ مال ملے گا، اور اب جو تم نے خواب دیکھا یہ گرمی کا موسم ہے اور گرمیوں میں آگ رحمت کی علامت نہیں ہو سکتی لہذا میں نے تعبیر دی جو تمہارے سامنے ہے۔“

آگ ہی آگ

ایک مرتبہ امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ایک شخص سے اس کا نام پوچھا، کہا کہ ”جرہ“ (معنی چنگاری)

امیر المؤمنین: بہاپ کا نام؟

جرہ: شہاب (معنی شعلہ)

امیر المؤمنین: کس قبیلہ سے ہو؟

جرہ: خرقہ (معنی سوزش) سے

امیر المؤمنین: کہاں رہتے ہو؟

جرہ: حرا (معنی گرمی) میں

امیر المؤمنین: حرا کے کس مقام پر رہتے ہو؟

جرہ: ذات لطی (معنی شعلہ والا) میں

یہ عجیب بات تھی کہ اس کا، بہاپ کا، قبیلہ کا، وطن اور محل تک کا نام ایسا تھا جس کے معنی آگ یا گرمی کے ہوتے تھے، اس پر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دوڑو، اپنے کنپے کی خبر لو کہ وہ سب کے سب جل کر بھسپ ہو چکے ہیں، وہ فوراً لوٹا تو واقعی اس کا پورا لکبہ جل کر ڈھیر ہو چکا تھا۔

دریاؤں پر حکومت

جب غازیانِ اسلام کے ہاتھوں ملک مصر فتح ہوا تو مصری مہینوں میں سے ایک خاص مہینہ کی پہلی تاریخ کو مقامی باشندوں کا ایک وفد اسلامی گورنر عمر و بن العاص رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ ہمارے اس دریائے نیل کی ایک عادت ہے جب تک اس کی تیکمیل نہ کر دی جائے اس وقت تک اس میں روانی نہیں آتی۔

گورنر: وہ عادت کیا ہے؟

وفد: ہمارا سالانہ وستور ہے کہ جب ماہِ رواں کی گیارہ تاریخ ہوتی ہے تو ایک نوجوان دو شیزہ کو جو والدین کی اکلوتی بیٹھی ہوتی ہے تیار کرتے ہیں، اس کے والدین کو راضی کر لیتے ہیں، پھر اسے نہلا دھلا کر بہترین سے بہترین کپڑوں اور عمدہ سے عمدہ زیورات سے آراستہ کر کے دریائے نیل میں پھینک دیتے ہیں، اگر کسی سال ایسا نہ کریں تو دریا خشک ہو جاتا ہے اور ملک پر قحط سالی مسلط ہو جاتی ہے۔

یہ سن کر عمر و بن العاص رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، یہ علم اسلام میں ہرگز نہیں ہو سکتا، اسلام ایامِ جاہلیت کی تمام غلط رسوم کو ختم کرنے کے لئے آیا ہے، یہ سن کر تمام لوگ خاموش ہو گئے، اور اس سال نوجوان زندہ دو شیزہ کو دریائے نیل کی نذر نہ کرنے سے دریا کی روانی قطع کر کی رہی اور قحط سالی نے مقامی باشندوں کو ترکِ وطن پر مجبور کر دیا۔

اسلامی گورنر و بن العاص رضی اللہ عنہ نے یہ حالات دیکھ کر تکمل

رپورٹ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں دارالخلافہ روانہ کی۔

امیر المؤمنین نے جواب میں لکھا کہ ”تم جو کیا بالکل صحیح ہے اور تمہاری رائے صحیح ہے، اسلام نے پچھلی تمام غلط رسوم کو جز سے اکھاڑ پھینکا ہے، اس لئے دو شیزہ کو ہرگز نیل میں نہ دالا جائے۔“ اور اس مکتوب میں ایک کارڈ دریائے نیل کے نام لکھ کر رکھ دیا، اور گورنر مصہ کو ہدایت کی یہ کارڈ دریائے نیل میں ڈال دیا جائے۔

کارڈ کا مضمون یہ تھا:

”اللہ کے بندے عمر امیر المؤمنینؑ کی طرف سے نیل مصر کے نام! اتنا بعد:- اے دریائے نیل تو غور سے سُن لے کہ اگر تجھے میں خود بخود روانی آجائی ہے اور تو صرف اپنی مرضی سے بہتا ہے، تیرا کوئی چلانے والا اور بہانے والا نہیں ہے تو ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں اور تو ہرگز جاری نہ ہو، لیکن اگر تو اللہ تعالیٰ کے حکم اور قدرت سے چلتا ہے تو میں خداۓ واحد و قہار سے سوال کرتا ہوں کہ وہ تجھے جاری کر دے۔“

چنانچہ عمر و بن العاص رضی اللہ عنہ نے صلیب نکلنے سے ایک روز پہلے رات کے وقت اس حکمنامہ کو دریائے نیل میں ڈال دیا، مصر کے زمین و آسمان اور لاکھوں باشندوں نے صحیح کو یہ عجیب و غریب تماشا دیکھا کہ وہی خشک دریا جو بند پڑا تھا، پورے زور و شور کے ساتھ جاری تھا، اور اسلامی مملکت کے بنے نظیر حکمران فاروق اعظمؓ کے حکمنامہ کے سامنے اس طرح مل کھا رہا تھا جیسے کوئی

سائبپ بین کے سامنے بل کھاتا ہے۔
باپ اور بیٹا

حضرت عمر بن عبد العزیز جن کو فاروقی ثانی کہا جاتا ہے اور جن کا طرز مملکت فاروقی اعظم کے طرز پر تھا جب مسند خلافت پر فائز ہوئے تو بعض جائیدادوں پر بخوبی کے پہلے خلفاء نے عاصبانہ قبضہ کیا ہوا تھا اور ایک خدا ترس خلیفہ کا سب سے مقدم فرض یہی تھا کہ تمام مظلوموں کا حق واپس دلائے۔ جس وقت پہلے خلیفہ سلیمان ابن عبد الملک کی تجدیہ و تکفین سے فارغ ہو کر گھر واپس آئے تو تجدیہ و تکفین اور دوسرے اہم کاموں کی وجہ سے رات بھر قطعاً سونے کا موقع نہ ملا تھا اور دن میں بھی کاموں سے تھک کر چور ہو چکے تھے اس لئے ذرا آرام کے لئے دوپہر کو لیٹنے کا ارادہ کیا تو آپ کے صاحبزادے آگئے اور پوچھا۔
بیٹا: آپ غصب کی ہوئی جائیدادیں واپس کرنے سے پہلے سونا چاہتے ہیں؟
عمر بن عبد العزیز: سلیمان کی تجدیہ و تکفین اور دوسرے وقت کاموں کی وجہ سے رات بھر سونہیں سکا ہوں، نماز ظہر کے بعد یہ خدمت انجام دوں گا۔

بیٹا: کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ ظہر کے وقت تک زندہ رہیں گے؟
عمر بن عبد العزیز پر اس فقرہ کا اتنا اثر ہوا کہ بیٹے کو گلے سے لگایا اور پیشانی پر بوسہ دے کر فرمایا، اس خدا کا شکر ہے جس نے مجھے ایسی اولاد دی جو مجھے مذہبی کاموں میں مدد دیتی ہے چنانچہ فوراً انھوں کر اعلان کرایا کہ لوگ اپنی اپنی مخصوص بہ جائیدادوں کے متعلق شکایات پیش کریں، اور آخر اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھے جب تک تمام لوگوں کی جائیدادیں واپس نہ کروں۔

کاغذ کا ملکہ

عمر بن عبد العزیزؓ کے پیش کار ”فرات“ ہر جمعہ کو ان کی خدمت میں سرکاری کاغذات پیش کیا کرتے تھے، ایک دن انہوں نے حب و ستور کا غذاء پیش کئے تو امیر المؤمنینؑ نے ان میں سے ایک بالشت سادہ کاغذ کا ملکہ اپنے ذاتی کام میں استعمال کر لیا، چونکہ کاغذ سرکاری ملکیت تھا (اور فرات پر امیر المؤمنینؑ کی دیانت بھی پوشیدہ نہیں تھی) اس لئے دل میں خیال کیا کہ شاید بھول کر ایسا کر لیا ہے۔ دوسرے دن امیر المؤمنینؑ نے فرات کو مع کاغذات کے طلب کیا اور کاغذاب خود لے کر انہیں کسی کام کے لئے باہر بھیج دیا۔ فرات واپس آئے تو ان سے فرمایا، اب تک تمہارے کاغذات و کمکھنے کا موقع نہل کا، اس لئے اس وقت تو یہ لے جاؤ پھر کسی وقت بلا لوں گا، انہوں نے گھر جا کر کاغذات کھو لے تو دیکھا کہ جتنا کاغذ انہوں نے کل خرچ کیا تھا اتنا ہی کاغذ اس میں موجود تھا۔ فرات امیر المؤمنینؑ سے اپنی بدلتی پر بہت شرمندہ ہوا۔

امام اعظم ابوحنیفہ

دنیا کے اس عظیم کرۂ پر نہ معلوم کتنی شخصیتیں روز نمودار ہوتی ہیں اور کتنی غالب ہو جاتی ہیں، پھر تاریخ کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کون آیا تھا اور کون چلا گیا لیکن کچھ شخصیتیں حافظ تاریخ میں اتنے گھرے نقوش چھوڑتی ہیں کہ زمین و آسمان کے لاکھوں انقلاب اور کروڑوں گردشوں سے بھی ان کی تابانی میں فرق نہیں آتا۔ وہ جتنے پرانے ہوتے ہیں زیادہ روشن اور زیادہ دلکش ہوتے چلے جاتے ہیں۔

آج سے پورے تیرہ سو سال پہلئے ۸۰ھ میں ایسی ہی عظیم شخصیت کو نہ کے افت پر نمودار ہوئی تھی، جس کا نام اگرچہ ابوحنیفہ تھا مگر اب وہ ”امام عظیم“ ہیں، وہی امام عظیم ابوحنیفہ جن کی طرف نسبت کر کے تقریباً ۱۲ کروڑ مسلمان حنفی کہلاتے ہیں۔

آپ عراق کے شہر کوفہ میں کپڑے کے ایک مشہور سوداگر کے یہاں پیدا ہوئے تھے، بچپن اس حالت میں گزر اکہ تمام اسلام ممالک ملکی جھگڑوں میں گرفتار تھے، کچھ تو اسی خلفشار کا اثر تھا کہ طویل عرصہ تک وہ اپنی تعلیم کی طرف متوجہ ہو سکے اور کچھ یہ وجہ بھی تھی کہ والد کا سایہ بچپن ہی میں سر سے اٹھ جانے کے باعث وسیع کار و بار کی تمام ذمہ داری آپ کے سرا آپڑی تھی۔

جب عمر تقریباً میں سال ہوئی تو تحصیل علم کا شوق بیدار ہوا۔ اور حسن اتفاق سے ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے زندگی کا راز بکسر بدل دیا، کو نہ کے اس نوجوان سوداگر کو ابوحنیفہ سے ”امام عظیم“ بنانے کا سامان مہیا کر دیا۔

نیازخ

ایک روز بازار جارہے تھے کہ امام شعیؒ رحمۃ اللہ کے مکان سے گزر ہوا، امام شعیؒ کوفہ کے عظیم محدث اور مشہور عالم تھے، ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو گزرتے دیکھا تو یہ سمجھ کر کہ کوئی طالب علم ہے پاس بالایا، اور پوچھا کہاں جارہے ہو؟ ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سوداگر کا نام بتایا کہ اس کے یہاں جارہا ہوں۔ امام شعیؒ نے فرمایا میرا مطلب یہ ہے کہ تم کس سے پڑھتے ہو؟ اس سوال پر ابوحنیفہ نے مغموم لمحہ میں کہا ”کسی سے بھی نہیں“، امام شعیؒ نے اس ملاقات

میں اس ہونہار نوجوان کے جو ہر بھانپ لئے تھے جو قوموں کی زندگی میں ایک نئے، خوشنگوار باب کا اضافہ کرتے ہیں۔ معنی خیر توجہ کے ساتھ فرمایا۔ تم مجھ کو ذہین اور سعادتمند معلوم ہوتے ہو، تم علماء کی مجلس میں بیٹھا کرو۔

کچھ تو شوق پہلے سے تھا ہی، اس انقلابی نصیحت نے ایسا اثر کیا کہ پوری زندگی کو خدمت علم کے لئے وقف کر دیا۔ اور دن رات محنت کر کے تھوڑے ہی عرصہ میں رفقائے درس اور اساتذہ پر اپنی عجیب و غریب ذہانت، بے پایاں شوق، اور غیر معمولی قابلیت کا گھر نقش قائم کر دیا۔ اساتذہ اور ہم سبق سب ہی ان کا احترام کرنے لگے، علم کا ایسا چکنہ لگا کہ اس کے لئے دور دراز کے سفر کرتے، جس جگہ معلوم ہوتا کہ وہاں فلاں عالم ہیں، پہنچ جاتے اور علم حاصل کرتے، یہی وجہ ہے کہ بعض مورخین نے آپ کے اساتذہ کی تعداد تقریباً ۳۰ ہزار بتلاتی ہے۔

اساتذہ کا احترام

اساتذہ کا اس قدر احترام کرتے کہ آج کی اس ”مہذب دنیا“ میں اس کا تصور بھی آسان نہیں، ایک مرتبہ خود ہی فرمایا ”حمدار رحمۃ اللہ علیہ (آپ کے مخصوص استاد) جب تک زندہ رہے میں نے ان کے مکان کی طرف کبھی پاؤں نہیں پھیلائے۔“

ان سب چیزوں نے ملکر چند ہی سالوں میں امام ابوحنیفہؓ کے غیر معمولی علم اور عظیم کردار کا اعتراف پوری دنیا نے اسلام سے کرالیا، پچھے پچھے کے منہ پر امام ابوحنیفہؓ کا نام تھا، سفر میں کسی بستی یا شہر سے گزر ہوتا تو بستی کے لوگ

پروانوں کی طرح جھرمٹ میں لے لیتے، اور وقت کو غنیمت جان کر اسلامی قانون و فقہ کے مشکل ترین مسائل ان سے حل کرتے۔

امام عظیم نے علم اور اسلامی قانون کی جو تعمیری، حیرت انکا اور عظیم الشان خدمات انجام دی ہیں اور جو درحقیقت ان کا سب سے بڑا اور تاریخ کا بے نظیر کارنامہ ہے، ان پر اگر بحث کی جائے تو ایک مستقل دفتر کھل جائے، مگر ان سطور میں ہم ان کی بعض دوسری خصوصیات کا ذکر کریں گے جو تیرہ سو سال کی تاریخ میں ان کی عظیم شخصیت کو بے مثال بنادیتی ہیں۔

والدہ کی اطاعت

والد صاحب کے انتقال کے بعد والدہ کی خدمت کا آپ کو خوب موقع ملا، والدہ ذرا شکلی مزاج عورت تھیں، ایسے واعظ، علماء سے جو صرف اپنی زبان کے زور پر عقیدت مندوں کی بھیڑ جمع کر لیتے ہیں زیادہ عقیدت رکھتی تھیں، کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا تو اپنے بیٹے سے پوچھنے کے بجائے کوفہ کے ایک مشہور واعظ ”عمر بن ذر“ سے جو علم کے اعتبار سے امام عظیم کے شاگردوں کی بھی صفت میں نہ آسکتے تھے، معلوم کرتیں، پھر لطف یہ کہ خود امام عظیم ہی کو حکم دیتیں کہ مسئلہ پوچھ کر آئیں، تعمیل حکم کے لئے امام ابوحنیفہؑ ان سے مسئلہ پوچھتے تو وہ شرمندہ ہوتے کہ میں آپ کے سامنے کیا بول سکتا ہوں! فرماتے کہ والدہ کا بھی حکم ہے۔ اور اکثر ایسا ہوتا کہ ”عمر“ ان سے درخواست کرتے کہ مجھے یہ مسئلہ معلوم نہیں، آپ بتاویں تو یہی میں آپ کے سامنے دہرا دوں گا۔

آپ انتہائی ذہین اور بلا کے حاضر جواب تھے، اس سلسلہ میں بے

شمار عجیب و غریب اور دلچسپ واقعات تاریخ کو بھی تک یاد ہیں۔ چند یہ بھی سن لیجیے:

حاضر جوابی

مسئلہ ہے کہ نماز میں مقتدی سورہ فاتحہ اور قرآن کریم کی کوئی آیت نہیں پڑھتا ہے اور سب لوگ خاموش کھڑے رہتے ہیں، یہی امام ابوحنیفہ کا مسلک بھی ہے۔ ایک مرتبہ بہت لوگ جمع ہو کر امام ابوحنیفہ کے پاس آئے اور کہا: تم امام کے پیچھے نماز یوں کو قرآن پڑھنے سے روکتے ہو، ہم تم سے ”مناظرہ“ کریں گے،

امام ابوحنیفہ: اتنے آدمیوں سے میں تھا کیسے بحث کر سکتا ہوں؟ ہاں اگر آپ چاہیں تو اپنے میں سے کسی ایک کو منتخب کر لیں جو سب کی طرف سے مجھ سے بات کرے اور اس کی بات آپ سب کی بات سمجھی جائے۔ لوگوں نے امام صاحب کی اس بات کو بڑی خوشی سے منظور کر لیا۔

امام ابوحنیفہ: آپ نے جب یہ بات مان لی تو بحث بھی ختم ہو گئی آپ نے جس طرح ایک شخص کو سب کا نمائندہ بنادیا اسی طرح نماز میں امام بھی تمام نماز یوں کا نمائندہ ہوتا ہے اور اس کی قراءت سب کی قراءت ہوتی ہے۔ پورا جمع حیرت سے ایک دوسرے کا منہ تک کر واپس ہو گیا۔ دراصل ان کا یہ بر جستہ جواب رسول اکرم ﷺ کی ایک حدیث کی لذشن تشریع تھی جس کا مطلب یہ ہے کہ جب امام قرآن پڑھتا ہے اس وقت باقی نماز یوں کو خاموش رہنا چاہیے۔

ایک اور واقعہ

ایک شخص نے غصہ میں اپنی بیوی سے کہدیا "خدا کی قسم جب تک تو مجھ سے نہیں بولے گی، میں تجھ سے بات نہ کروں گا" عورت بھی غصہ میں تھی، بولی "خدا کی قسم جب تک تم مجھ سے نہ بولو گے میں بھی تم سے کلام نہ کروں گی۔"

اس وقت دونوں نے غصہ میں قسمیں کھالیں لیکن بعد میں سخت پریشان ہوئے کیوں کہ جو بھی بوتا ہے اس کی قسم ٹوٹتی ہے، بھاری کفارہ لازم ہوتا ہے، اور نہیں بولتے تو بسر کیسے ہو؟؟

سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا انہوں نے فتوی دیا "اگر تم بیوی سے بولو گے تو قسم کا کفارہ دینا پڑے گا اس کے بغیر چارہ کار نہیں" آدمی غریب تھا، پریشان ہو کر امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس آیا۔ امام صاحب نے واقعُ سن کر فرمایا "جاوہ شوق سے با تمن کرو کسی پر کفارہ نہیں ہے۔"

سفیان ثوری گو معلوم ہوا تو سخت ناراض ہوئے اور امام ابو حنیفہ سے جا کر کہا "آپ لوگوں کو غلط مسئلے بتادیتے ہیں! امام صاحب نے اس شخص کو بلوایا اور فرمایا "اپنا پورا واقعہ دوبارہ بیان کرو" اس نے بیان کر دیا۔

امام اعظم: (سفیان ثوری سے) اس مسئلے کا جواب میں نے پہلے دیا تھا میں اب بھی اسی پر قائم ہوں۔

سفیان ثوری: کیوں؟

امام ابو حنیفہ: جب عورت نے شوہر کے جواب میں قسم کھاتی، وہ بھی تو بولنا ہی تھا، جب وہ جواب میں بول لیتی تو شوہر کی قسم کہاں باقی رہی؟

سفیان ثوری: (حیثیت زدہ ہو کر) واقعی جوبات وقت پر آپ سوچ لیتے ہیں ہمارا
دہاں خیال بھی نہیں جاتا۔

ذہانت

ایک شخص نے امام صاحب سے عرض کی کہ میں نے کچھ روپے ایک
جگہ چھپا کر رکھ دیئے تھے اب وہ جگہ مجھے یاد نہیں آتی، کس طرح تلاش کروں؟
فرمایا ”بھائی یہ کوئی فقد کا مسئلہ تو ہے نہیں کہ مجھ سے پوچھنے آئے ہو۔ مگر جب اس
نے زیادہ اصرار کیا تو فرمایا ”آج تمام رات نماز پڑھو“ اس نے رات کو نماز
پڑھنا شروع ہی کیا تھا کہ اچانک وہ جگہ یاد آگئی، صبح کو دوڑا ہوا امام صاحب کے
پاس آیا اور واقعہ بتایا، فرمایا ہاں شیطان کیسے برداشت کرتا کہ تم رات بھرنماز
پڑھتے رہو۔ پھر بھی تمہیں چاہئے تھا کہ رات بھرنماز پڑھتے رہتے۔

ایک اور واقعہ

ای طرح ایک اور آدمی آیا اور کہا ”میں نے کچھ سامان گھر کے کسی
کو نے میں گاڑ دیا تھا اب وہ جگہ بالکل یاد نہیں آتی، کوئی صورت بتائیں کہ
سامان مجھے مل جائے، امام صاحب نے فرمایا ”جب تمہیں یاد نہیں تو مجھے اور بھی
یاد نہ ہونا چاہتے۔ وہ رونے لگا تو رحم آگیا، چند شاگرد ساتھ لے کر اس کے گھر
گئے اور شاگردوں سے پوچھا۔ اگر یہ مکان تمہارا ہوتا اور تم کوئی چیز چھپانا چاہتے
تو کہاں گاڑتے؟ سب نے اپنے اپنے اندازہ سے چار مختلف جگہیں بتا دیں۔
امام صاحب نے انہیں چاروں جگہوں کو کھو دنے کا حکم دیا اور تیسری جگہ کھو دی گئی
تو تمام سامان نکل آیا۔

پراسرار گواہی

ابن بطوطة سفر مالا بار کے حالات میں لکھتا ہے کہ یہاں کے ایک عظیم الشان شہر ”د فتن“ میں جامع مسجد کے سامنے لوگوں نے مجھے ایک سربزہ شاداب درخت دکھایا جس کے پتے انجیر کے مشابہ مگر قدرے نرم تھے اس کا نام ”درخت شہادۃ“ ہے لوگوں نے عجیب و غریب بات یہ بتائی کہ ہر سال موسم خزان میں اس میں سے ایک پتہ جھوڑتا ہے جو سرخی مائل ہوتا ہے اس میں قلم قدرت کی یہ عجیب و غریب تحریر موجود ہوتی ہے ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ“ یہاں کے مشہور عالم ”حسین“ اور بہت سے معتر لوگوں نے بتایا کہ انہوں نے وہ پتہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور مذکورہ کلمہ صاف پڑھا ہے، ”حسین“ نے بتایا کہ جب اس کے گرنے کا زمانہ آیا تو درخت کے نیچے کئی معتبر کافر اور مسلمان بیٹھ گئے جب وہ گرا تو نصف مسلمانوں نے لے لیا اور نصف شاہی خزانہ میں رکھ دیا گیا۔

یہی درخت دیکھ کر موجودہ بادشاہ کا دادا کویل مسلمان ہو گیا تھا اس کا ایک لڑکا کافر تھا باب کے مرنے کے بعد اس نے یہ درخت جریسمیت اکھڑا دادیا اور اس کا کوئی نام و نشان باقی نہ چھوڑا۔ مگر جلد ہی وہ درخت تو اپنی پہلی آب و تاب کے ساتھ نکل آیا، مگر وہ لڑکا فوراً ہلاک ہو گیا۔ اب اس درخت سے یہاں کے غیر مسلم مریضوں کے لئے شفاء مانگتے ہیں۔ (ابن بطوطة ۲: ۱۱۳)

بناؤ رند خوش رسمے

مندرجہ ذیل واقعہ کی صداقت سے وہ مستشرقین بھی انکار نہ کر سکیں

گے جو طعنہ دینے ہیں کہ اسلام توارکے زور سے پھیلا ہے!
امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے غازیان اسلام کا ایک
دستہ روم کی طرف روانہ کیا، اسی دستہ میں رسول اکرم ﷺ کے ایک صحابی عبد
اللہ بن حذافۃ رضی اللہ عنہ بھی شریک تھے۔

سوہ اتفاق سے یہ دستہ رومیوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا رومیوں کو
جب یہ معلوم کر ان میں ایک صحابی بھی موجود ہیں تو انہیں شاہزادہ روم کے سامنے
پیش کیا اور بتایا کہ یہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے صحابی ہیں۔
شاہزادہ روم: (عبد اللہ سے) تم عیسائی مذہب قبول کر لو تو میں تمہیں اپنی حکومت و
باوشاہست میں شریک کروں گا۔

عبد اللہ: اگر تو مجھے اپنے پورے ملک اور مال و دولت کا اور تمام ملک عرب کا
مالک بناوے تو میں ایک لمحے کے لئے بھی اپنے پیغمبر کے دین سے ہٹنا گوارا نہیں
کر سکتا۔

شاہزادہ: تو میں تمہیں قتل کر دلوں گا۔

عبد اللہ: مجھے اس کی پرواہ نہیں۔

شاہزادہ روم نے حکم دیا کہ اس کو سولی پر لٹکا دیا جائے، اور تیر اندازوں کو
علیحدہ سمجھا دیا کہ اس پر تیر بر سائے جائیں مگر اس طرح کہ یہ زندہ باقی رہے،
تیروں کی بارش شروع ہو گئی تمام تیر دائیں میں باکیں سے ہو کر گزر رہے تھے تیروں
کی اس دہشت انگیز سنتناہست میں بار بار اس مرد جان باز کو عیسائیت کی تبلیغ کی
جائی تھی، مگر وہ غیر متزلزل قوت کے ساتھ مسلسل انکار کرتے رہے۔

عاجز آ کر شاہِ روم نے ان کو سولی سے اتنا نے کا حکم دیا مگر اس نے
نہیں کہ اس کے دل میں پچھر جنم آ گیا تھا بلکہ اس لئے کہ اب اس کی درندگی نے
ایک اور بھی انک صورت اختیار کر لی تھی۔

ایک بڑی دیگ منگائی گئی، اس میں پانی خوب کھولا یا گیا، جب وہ
پوری طرح جہنم زار بن گئی تو عبد اللہؐ کے ایک ساتھی کو دھمکی دی گئی کہ عیسائی
ذہب اختیار کرلو ورنہ اس دیگ میں ابال دیئے جاؤ گے، لیکن یہ دیکھ کر ان کی
حیرت کی اختیانہ رہی کہ اس نے صاف انکار کر دیا، آخر ان چیزیں صفت انسانوں
نے اس کو ہٹھوتی ہوئی دیگ میں پھینک دیا تھوڑی دیر بعد جب لاش باہر نکالنے کی
کوشش کی گئی تو چند ہڈیاں نکل سکیں۔ گوشت پانی میں گھل چکا تھا، یہ بھی انک
منظروں کے بعد شاہِ روم کو یقین تھا کہ عبد اللہؐ اب عیسائی ذہب سے انکار نہ
کر سکے گا۔

شاہِ روم: تم نے اپنے ساتھی کا حشر اچھی طرح دیکھ لیا، اگر تم اب بھی عیسائی
ذہب قبول نہ کرو گے تو تمہیں بھی اس دیگ میں اسی طرح ابال دیا جائے گا۔
عبد اللہؐ: مگر میں اپنے ایمان پر اب بھی قائم ہوں، میں اپنے پیغمبر کا ذہب نہیں
چھوڑوں گا۔

حکم دیا گیا کہ اسے بھی اسی کھولتے ہوئے پانی میں جھونک دیا
جائے۔

جب عبد اللہ رضی اللہ عنہ کو اس وحشت ناک دیگ کے قریب لے جایا
گیا تو عبد اللہ رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں بہہ لکھیں، شاہِ روم

سبھا کر یہ خوف زدہ ہو گیا ہے، اس مرتبہ اس کو پختہ یقین ہو گیا کہ اب وہ اسلام کو ضرور چھوڑ دے گا، عبداللہ کو پاس بلایا اور پھر اپنے مذهب کی تبلیغ کی۔

عبداللہ: میرا فیصلہ اٹل ہے، میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ میں اسلام کو نہیں چھوڑوں گا، اور اب بھی پوری قوت کے ساتھ اس پر قائم ہوں۔

شاہِ روم: پھر تم کیوں رور ہے تھے؟

عبداللہ: میں موت سے ڈر کرنہیں بلکہ یہ سوچ کر رورہا تھا کہ اب چند لمحوں میں مجھے شہادت نصیب ہو جائے گی، کاش مجھے سیکھڑوں مرتبہ زندگی ملتی، ہر مرتبہ زندہ ہونے کے بعد مجھے اس میں ڈالا جاتا اور ہر مرتبہ مجھے شہادت نصیب ہوتی!

شاہِ روم: اپنا اگر تم عیسائی مذہب قول نہیں کرتے تو میرے سر کو بوسہ دیوں میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔

عبداللہ: کیا میرے ساتھیوں کو بھی آزاد کرو گے؟

شاہِ روم: ہاں ساتھیوں کو بھی!

عبداللہ کہتے ہیں کہ یہ سوچ کر کہ اگر چہ یہ اللہ کا دشمن ہے مگر اس کے سر کا بوسہ دینے سے (جس میں کوئی شرعی ممانعت بھی نہیں) مجھے اور میرے تمام ساتھیوں کو آزادی مل جائے گی، میں نے یہ شرہ منظور کر لی اور اس کے سر کو بوسہ دیدیا۔

جب یہ پورے دستے کے ساتھ آزاد ہو کر مدینہ منورہ پہنچ تو امیر المؤمنین فاروقؑ اعظم رضی اللہ عنہ نے ان کا شاندار خیر مقدم کیا اور فرمایا، ہر مسلمان پر حق ہے کہ وہ عبد اللہ بن حذافتؑ کے سر کو چوہے اور سب سے پہلے میں

چوتھا ہوں، یہ کہہ کر فرط محبت میں عبد اللہ بن حداۃ کا سرچوم لیا۔ (کنز العمال ۷: ۲۲، والاصابة: ۲۸۸)

حق بحق دار رسید

اُن بلوط نے ایک عجیب واقعہ یہ لکھا ہے کہ میں ہندوستان کے کوہ کامرو پہنچا، چین اور تبت کے ناقابل تسبیر پہاڑی سلسلہ سے ملا ہوا ہے، مقصد یہ تھا کہ شیخ جلال الدین تبریزی سے ملاقات کروں، جب میں ان سے ملا تو انہوں نے ایک نہایت حسین اور بیش قیمت پوستین پہنی ہوئی تھی میر ادل چاہا کہ کاش شیخ یہ مجھے دیدیں مگر زبان سے کچھ نہ کہا۔

جب میں رخصت ہونے لگا تو شیخ نے وہ پوستین اتار کر مجھے پہنادی اور خود پیوند لگا ہوا باداہ اور ٹھلیا، ان کے پاس رہنے والے چند فقیروں نے مجھے بتایا کہ اتنا بیش قیمت لباس پہننے کی شیخ کو عادت نہیں، دراصل یہ پوستین انہوں نے اپنے بھائی ”برہان الدین صاغر بی“ کے واسطے اُنہی کے ناپ پر بنوائی ہے۔

لیکن تمہاری آمد کے وقت یہ انہوں نے خود پہن لی اور پیش گوئی کی کہ یہ مہماں مجھ سے یہ پوستین لے لیگا۔ اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ اس سے ایک کافر بادشاہ لے لیگا۔ پھر اس بادشاہ سے کسی طرح یہ پوستین میرے بھائی برہان الدین کے پاس پہنچ جائے گی۔

ان لوگوں کی بات سن کر میں نے کہا کہ اس تبرک کو میں اپنے ہاتھ سے جانے نہ دوں گا، میں کسی بادشاہ سے یہ پہن کر ملوں گا ہی نہیں چاہے وہ کافر

ہو یا مسلمان، یہ کہہ کر میں ان لوگوں سے رخصت ہو گیا، عرصہ دراز کے بعد اتفاقاً مجھے چین کا سفر پیش آیا، اس کے عظیم الشان شہر ”خنسہ“ میں داخل ہوا تو شدید ہجوم کی وجہ سے میرے ساتھی مجھ سے پھر گئے، اس وقت میں پوتین پہنے ہوئے تھا، ابھی راستہ ہی میں تھا کہ سامنے سے وزیر کی سواری آگئی اس کی نظر مجھ پر پڑی تو مجھے بلایا، ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر وہ حالات سفر پوچھتا رہا اور اپنے ساتھ لے گیا، حتیٰ کہ ہم دونوں شاہ چین کے محل میں داخل ہو گئے، میں نے وہاں سے بٹنے کی کوشش کی مگر وزیر نے روک دیا اور بادشاہ سے ملاقات کرائی۔

شاہ چین مجھ سے سلاطین اسلام کے بارے میں پوچھتا رہا، لیکن بار بار اس کی نظر میں میری پوتین میں جذب ہوتی جا رہی تھیں آخر وزیر نے مجھ سے کہا کہ یہ پوتین اتار دو، میں انکار نہ کر سکا اور پوتین اتار کر شاہ کے حوالے کر دی، شاہ نے اس کے عوض میں مجھے دس جوڑے، ایک آرستہ گھوڑا اور کچھ رقم خرچ کے لئے دیدی، میں اس سونے پر خوش تھا مگر فوراً ہی شیخ کی پیشگوئی یاد آگئی کہ ”یہ پوتین ایک کافر بادشاہ لے لیگا۔“ پھر اس پر ایک عجیب و غریب بات یہ ہوئی کہ اگلے سال چین کے دوسرے شہر پینگ جانے کا اتفاق ہوا، وہاں ایک بزرگ کے پاس حاضر ہوا، یہ دیکھ کر میری حرمت بڑھتی جا رہی تھی کہ یہ بزرگ بعینہ وہی پوتین پہنے بیٹھے تھے، میں نے یہ دیکھنے کے لئے کہ کہیں یہ کوئی دوسری تو نہیں اس کا پائے الٹ کر دیکھنا چاہا۔

مگر انہوں نے معنی خیزانداز میں پوچھا ”جب تم اسے پہچانتے ہو تو یوں کیوں الٹتے پلتے ہو؟“

میں نے بے چینی سے کہا جی ایسے وہی ہے جو مجھ سے خدا کے بادشاہ نے لے لی تھی۔

انہوں نے اسی انداز سے کہا کہ میرا نام ”برہان الدین صاغر جی“ ہے اور یہ پوتین میرے بھائی جلال الدین تبریزی نے میرے واسطے بنوائی تھی اور مجھے لکھ دیا تھا کہ یہ پوتین تہارے پاس فلاں شخص کے ذریعہ پہنچ جائے گی۔ یہ کہکروہ خط انہوں نے مجھے دکھایا۔ (رحلة ابن بطوطہ ۱۵۰:۲)

تاریخی رات

سلطنت عباسیہ کا عظیم خلیفہ ہارون الرشید تخت نشین ہوا تو رات کا وقت تھا اور ربیع الاول مکمل ہی سو لہویں تاریخ، اسی رات میں چند لمحوں قبل اس کے بھائی ہادی نے وفات پائی تھی جو اس وقت کا ولی عہد تھا، چند ہی لمحوں بعد سلطنت عباسیہ کا آئندہ وارث مامون پیدا ہوا۔

اس لحاظ سے تاریخ کی یہ عجیب رات تھی کہ اس میں سلطنت عباسیہ کے ایک خلیفہ نے وفات پائی، ایک خلیفہ تخت نشین ہوا اور ایک خلیفہ پیدا ہوا۔ (حماۃ الاسلام ۳۲:۲)

خط کا جواب

خلافت اسلامیہ اور ”رینی“ ملکہ روم کے درمیان ایک صلح نامہ لکھا گیا تھا جس پر ملکہ رینی تو اپنے دور حکومت میں کار بند رہی مگر اس کے بعد جب دوسرا بادشاہ تخت نشین ہوا تو اس نے امیر المؤمنین ہارون الرشید کو مندرجہ ذیل گستاخانہ خط لکھا ”مجھ سے پہلی ملکہ مجھ سے مرعوب تھی اور احساس کمتری کا شکار ہو گئی تھی،

وہ عورت تھی اس نے اپنی بے وقوفی اور نسوانی کمزوری کی وجہ سے صلح نامہ کے عوض بھاری دولت تجھے بھیج دی تھی، لیکن اب میں حکم دیتا ہوں کہ جس قدر مال تو نے اس سے وصول کیا ہے وہ بلا تاثیر مجھے لوٹا دے، ورنہ میرے اور تیرے درمیان تکوار فیصلہ کرے گی۔“

امیر المؤمنین ہارون رشید نے اس کا جو مختصر جواب دیا وہ تاریخ کی دلچسپ و ستاویز ہے۔ ہارون رشید نے لکھا تھا ”میں نے تیرا خط پڑھ لیا، اس کا جواب تو نے گا نہیں بلکہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔“

یہ خطروانہ کیا اور ساتھ ہی ایک شکر جاریکر روم کی طرف روانہ ہو گیا، جس وقت شاہ روم کے پاس یہ خط پہنچا عین اسی وقت شکر اسلام اس کی شہر پناہ پر مستک دے رہا تھا۔

اور کچھ دیر بعد پوری دنیا نے یہ خبر سنی کہ شاہ روم کا شہر ہارون رشید نے فتح کر لیا ہے۔“ (حادثہ الاسلام ۲۰:۲)

پانی کا ایک گھونٹ

ہارون رشید کی زبردست کامیابیوں، اور اندر وطنی اصلاحات کا ایک بڑا راز یہ تھا کہ اپنی مجلسوں میں ایسے حق گو اور بہی خواہ علماء کو کثرت سے شریک رکھتا تھا، جو قدم قدم پر اس کو نصیحت کرتے رہیں اور ہر لغرض پر اسے ٹوک سکیں۔ ایسے ہی علماء میں سے ابن سماک رحمۃ اللہ علیہ تھے جن سے ہارون رشید اکثر فرمائش کرتا کہ کچھ نصیحت کریں، ایک مرتبہ خلیفہ کے پاس بیٹھے تھے کہ خلیفہ نے پانی طلب کیا، خلیفہ کلاس منہ کو لگایا ہی چاہئے تھے کہ انہوں نے کہا۔

امیر المؤمنین ذرا خبر جائیے یہ بتائیے کہ کوئی زبردست قوت اگر آپ کو پانی سے روک دے تو یہ چند گھونٹ پانی آپ کتنے میں خریدیں گے؟ کہا ”اگر یہ گھونٹ مجھے اپنی آدمی سلطنت کے عوض بھی ملے تو خریدنے پر مجبور ہوں گا۔“

ابن سماک نے کہا اب نوش فرمائی اللہ آپ کو مبارک کرے۔

جب پانی پی لیا تو پوچھا اب بتائیے کہ یہ پانی جو آپ نے پیا اگر اس کے باہر نکلنے کا راستہ بند کرو دیا جائے تو اس کو نکالنے کے لئے آپ کتنی دولت صرف کر دیں گے؟ کہا ”اگر مجھے پوری سلطنت بھی خرچ کرنا پڑے تو دریغ نہ کروں گا۔“

ابن سماک نے کہا جس حکومت و سلطنت کی قدر و قیمت پانی کے ایک گھونٹ کے برابر بھی نہیں کیا وہ اس قابل ہے کہ اس کی حرص و طمع میں انسان اپنے بھائیوں سے لڑتا پھرے؟ ہارون رشید یہ سن کر روپڑا۔ (حmate الاسلام)
حاضر جوابی

امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک زبردست مقتن اور فقیہ ہونے کے علاوہ بلا کے حاضر جواب تھے، کتنا ہی پیچیدہ اور مشکل مسئلہ ہوا یہے عام فہم طریقے سے سمجھا دیتے تھے کہ فوراً ہن لشین ہو جائے۔

بنو امیہ کے دور خلافت میں خارجیوں کا مشہور سردار ضحاک کوفہ پر قابض ہو گیا۔ ایک مرتبہ امام صاحب کے پاس آیا اور تواریخ سچی کہ کہا کہ ”توبہ کرو“ انہوں نے پوچھا کس بات سے؟ ضحاک نے کہا ”تمہارا عقیدہ ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نے معادیہ رضی اللہ عنہ کے جھگڑے میں عالیٰ مان لی تھی۔“ حالانکہ

وہ سراسر حق پر تھے تو ثالث ماننے کا کیا مطلب؟
امام صاحب نے فرمایا کہ اگر مجھے قتل کرنا ہی تقصیوں ہے تو اور بات
ہے ورنہ اگر تحقیق چاہتے ہو تو مجھے بولنے کا موقع دو۔

ضحاک نے کہا ”میں بھی مناظرہ ہی چاہتا ہوں۔“ امام صاحب نے
کہا ٹھیک ہے مناظرہ کرو۔ لیکن اگر بحث آپس میں طے نہ ہو تو کس طرح فیصلہ
ہو؟ ضحاک نے کہا ہم دونوں کسی تیر سے شخص کو منصف قرار دیتے ہیں، جس
کے حق میں وہ فیصلہ کر دے اس کی بات مانی جائے گی۔

چنانچہ ضحاک ہی کے ساتھیوں میں سے ایک شخص کو منتخب کر لیا گیا کہ
دونوں کی بحث میں غلطی یا صحت کا فیصلہ کرے۔

امام صاحب نے فرمایا ”یہی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی کیا
تھا، تم نے خود ٹالشی منتظر کر لی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ پر کیا الزام ہے۔“
ضحاک دم بخود رہ گیا۔ اور خاموشی سے اٹھ کر چلا گیا۔ (سیرۃ النبیان: ۶۷)

آدم خور

آدم خوروں کی کہانیاں آپ نے بچپن میں سنی ہوں گی لیکن یچے کی
سطور کی کہانی نہیں بلکہ مستند تاریخ کا ایک ایسا ورق ہے جس سے انسانیت کی
پیشانی اب بھی عرق عرق ہو جاتی ہے۔

ابن بطوطاً پر مشہور سفر نامہ میں لکھتا ہے کہ جب میں سوڈان کی
سیاحت میں مصروف تھا، شاہ سوڈان کے پاس سوڈانیوں کا ایک وفد آیا اس وفد
کے تمام لوگ آدم خور تھے، ان کے کانوں میں بڑے بڑے بندے تھے، جن

کے دائرے نصف بالشت کے برابر تھے، ان کے ملک میں سونے کی کان تھی، بادشاہ نے ان کا پرتپاک خیر مقدم کیا اور دعوت میں ایک بامدی پیش کی، ان لوگوں نے اسے ذبح کیا اور کھا گئے، پھر اس کا خون اپنے چہروں اور ہاتھوں پر ملن کر بادشاہ کے پاس آئے اور شکریہ ادا کیا۔

مجھے لوگوں نے بتایا کہ جب بھی یہ لوگ بادشاہ کے مهمان ہوتے ہیں ان کی تواضع اسی طرح کی جاتی ہے۔ (رحلہ ابن بطوطہ ۲: ۲۰۲)

پھروں کی بستی

ابن بطوطہ سندھ کی سیاحت کے حالات میں لکھتا ہے کہ ایک دن میں ایک مقامی جا گیردار کے ساتھ شہر سے باہر روانہ ہوا۔ تقریباً سات میل چلنے کے بعد، ہم ایک ہموار علاقہ میں پہنچ گئے۔

یہاں ایک عجیب و غریب منظر تھا۔ آدمیوں اور جانوروں کی شکل کے بے شمار پتھر پڑے تھے، بعض کے صرف سر یا پاؤں کی صورت باقی رہ گئی تھی، باقی خدوخال اور ناک نقشہ مت چکا تھا، کچھ پتھر چلنے، گندم اور وال وغیرہ کی شکلوں کے بھی تھے، شہر پناہ کے کھنڈر اور منہدم مکانات کی شکستہ دیواریں جگہ جگہ کھڑی تھیں۔

چند قدم چل کر ہمیں ایک مکان نظر پڑا جس میں ایک کمرہ تراشے ہوئے پتھر کا تھا، اس کے پیوں نیچے پتھری کا ایک چبوترہ ساتھا، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ سب ایک ہی پتھر ہے اس کے اوپر پتھر کا ایک آدمی بیٹھا تھا، مگر اس کا سر لبا اور منہ پتھرے کے واہنی طرف ہٹا ہوا تھا، ہاتھ کر کے پیچے تھے جیسے کسی نے

باندھ دیئے ہوں، جگہ جگہ پانی جمع تھا، جو انہائی متعفن تھا، بعض دیواروں پر ہندی زبان میں کتبے کنده تھے، میرے ساتھی نے بتایا کہ اہل تاریخ کہتے ہیں کہ اس مقام پر ایک عظیم الشان شہر آباد تھا۔ یہاں کے باشندوں نے جب بد دیانتی، جھوٹ، فریب اور ظلم و تعدی کی انہا کروی تو یہ سب کے سب پتھر بنا دیئے گئے۔ ان کا بادشاہ وہی ہے جو حولی میں چبورے پر بیٹھا ہے، یہ حولی اب بھی ”شاہی محل“ کے نام سے مشہور ہے، اور جو کتبے ہندی زبان میں دیواروں پر کنده ہیں ان میں اس شہر کی عبر تاک تباہی کی تاریخ درج ہے جواب سے ایک ہزار پہلے کی تاریخ ہے۔ (رحلہ ابن بطوطہ: ۲)

